

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن اپنے مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر

'ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام' کا آغاز کر رہا ہے

برامپٹن، آن (3 مارچ 2022) – سٹی آف برامپٹن، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں 12 ماہ کے ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کے آغاز کے ساتھ اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔

ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کا مقصد ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں اپنے رہائشیوں کو ٹارگنڈ اسٹریٹ آؤٹ ریج سروسز فراہم کرنا ہے، جس کا مقصد مقامی رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔

پروگرام کے ذریعے "ویکمنگ سٹریٹس لیڈرز" ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے کاروباروں کو معاونت فراہم کریں گے۔ لیڈرز ایسے حالات میں مدد کی درخواستوں پر عمل درآمد کریں گے جن کے لیے پیل ریجنل پولیس کی مدد کی ضرورت نہ ہو، مثلاً مصیبت میں گھرے افراد، وہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہنے والے افراد کے ساتھ منسلک ہوں گے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور ضرورت مندوں کو ایسی خدمات کی جانب ریفر کریں گے جن کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیڈرز ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن پروجیکٹس سینٹر میں موجود ہوں گے جو سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ کے گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔

ریجن آف پیل کے مطابق، 2020 میں پیل میں 4,566 افراد بے گھر تھے۔ جون 2021 میں، ریجن آف پیل نے پروگرام کے لیے \$250,000 کی فنڈنگ کی منظوری دی تھی، جس کی منظوری سٹی اور ریجن آف پیل کے درمیان شراکت داری کی بنیاد پر دی گئی تھی اور اس کو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA، پیل ریجنل پولیس، ریجنل آؤٹ ریج کمیونٹی اور کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن پیل ڈفرن کا تعاون حاصل ہے۔

ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں: brampton.ca/downtownbrampton

اقتباسات

"اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو مزید بہتر بنانے میں بڑی پیش رفت کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کاروباروں اور رہائشیوں کے لیے ایک محفوظ، جامع اور ترقی پسند جگہ بن جائے۔ ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام ہمارے مقامی رہائشیوں اور ڈاؤن ٹاؤن میں واقع کاروبار کے لیے ایک بہترین معاون ثابت ہو گا۔ ہم اس 12 ماہ کے تجرباتی پروگرام کے شاندار نتائج دیکھنے کے منتظر ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے کاروبار کووڈ-19 کی وباء سے بہت شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور سٹی ان کی بحالی کے عمل کے دوران انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ محفوظ اور صحت مندانہ عوامی مقامات بنانے کے مواقع کو بہتر بنا کر، ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو سب کے لیے مزید خوشگوار بنائیں گے۔ ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے شراکت داروں کا بہت شکریہ۔"

- مارٹن میٹیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"عوامی تحفظ ایک خوش آئند اور فروغ پزیر شہر کے لیے ضروری ہے اور سٹی حفاظت کے حوالے سے خدشات کو دور کرنے کے لیے اپنے کاروباروں اور رہائشیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام پر عمل درآمد اور بارہ مہینوں کے عرصے میں نتائج کا جائزہ لینے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی جانب سے، ہم اپنے شہر میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے پُر عزم ہیں تاکہ ہمارے کاروبار ترقی کر سکیں اور ہمارے رہائشیوں کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے عوامی مقامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ حفاظت اس میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام متعلقہ خدشات کو دور کرنے اور علاقے میں رہنے والے رہائشیوں کی مدد کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔"

- رچرڈ فارورڈ، کمشنر، پلاننگ، بلڈنگ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام ایک عظیم تعاون کا نتیجہ ہے۔ مجھے برامپٹن میں اس پائلٹ پروگرام کے آغاز کی حمایت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ڈاؤن ٹاؤن ہمارے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے زیادہ خوشگوار جگہ ہو۔"

- نیندو لینیکا، ریجن آف پیل، ریجنل چیئر

"پیل ریجنل پولیس ویلکمنگ سٹریٹس پروگرام کو شروع کرنے میں تعاون کرنے پر خوش ہے۔ ہم نے بحران کے شکار اور امدادی خدمات کے ضرورت مندوں کے ساتھ غیر فوری تعاملات کو کم کرنے میں مدد کے لیے اپ اسٹریٹ پروچز کو بہترین طریقوں سے معاونت فراہم کی ہے اور سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ان طریقوں میں سے ایک کی بہترین مثال ہے۔ ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے خوشگوار ماحول کو بڑھانے کے لیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

- نشان دورانیہ، چیف آف پولیس، پیل ریجنل پولیس

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام پر عمل درآمد ہوتے دیکھ کر بہت پرجوش ہے۔ یہ پروگرام ہمارے کاروباروں کے لیے ایک بہترین معاونت فراہم کرے گا اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو سب کے لیے لطف اندوز ہونے کی ایک محفوظ اور جامع جگہ بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔"

- سوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا (BIA)

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر www.brampton.ca پر مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca